

## سٹی آف برامپٹن اس موسم سرما کے دوران راستے صاف کرنے کے لیے تیار ہے!

برامپٹن، آن (7 نومبر 2022) – موسم سرما سر پر آن پہنچا ہے اور برامپٹن کا عملہ بھی مکمل تیاری میں ہے! ہماری ٹیم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہے کہ ہم شہر کی ملکیتی سڑکوں، فٹ پاتھوں، ٹرانزٹ سٹاپس، تفریحی پگڈنڈیوں اور اسکول کراسنگز کو صاف کرنے کے لیے تیار رہیں، تاکہ رہائشی اپنی منازل تک بخیریت پہنچ سکیں۔

سٹی رہائشیوں کو یاد دہانی کراتا ہے کہ موسم سرما کے لیے تیار ہونا ایک اجتماعی کوشش ہے اور سب کی مدد کے ساتھ یہ موسم ہر ایک کے لیے محفوظ تر بن سکتا ہے:

- ایمرجنسی کی صورت میں، کم از کم 72 گھنٹوں کے لیے اپنا اور اپنے خاندان کا خیال رکھنے کے لیے تیار رہنا ضروری ہے۔ اپنے گھر اور گاڑی کے لیے 72 گھنٹے کی ایک سفیٹی کٹ تیار کریں۔
- برفباری کے بعد پیدل چلنے کے راستوں سے برف، آئس اور کیچڑ کو فوری طور پر ہٹا دیں۔
- گلیوں میں گاڑیاں کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہو گی اور سردیوں کے شدید حالات کے دوران اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ براہ کرم اپنی گاڑیاں ہٹا لیں تاکہ برف ہٹانے والی گاڑیوں اور نمک پاشی کے عملے کے بحفاظت گزرنے کو یقینی بنایا جا سکے۔
- اگر برف باری کو رُکے ہوئے 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو گیا ہو اور آپ کی گلی کو ابھی بھی توجہ کی ضرورت ہو، تو 311 پر کال کر کے سٹی کو بتائیں، 311 موبائل ایپ پر ایک سروس ریکوئیسٹ جمع کرائیں، [www.311brampton.ca](http://www.311brampton.ca) پر ایک ای میل بھیجیں یا ملاحظہ کریں: [www.311brampton.ca](http://www.311brampton.ca)
- ہمارے [#BramSnowUpdate](https://twitter.com/BramSnowUpdate) کے لیے سٹی آف برامپٹن کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کریں؛
- اہل بزرگ افراد اور کسی جسمانی معذوری کے حامل گھر کے مالکان کے لیے برف ہٹانے کے لیے مالی معاونت بھی دستیاب ہے۔ مزید جانیں: [ow.ly/D2R050xgPq2](http://ow.ly/D2R050xgPq2)

### سٹی کا پلو ٹریکر

شہری [www.brampton.ca/snow](http://www.brampton.ca/snow) اور 311 موبائل ایپ پر سٹی کے پلو ٹریکر کا استعمال کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی سڑکوں اور فٹ پاتھوں کو عملے نے صاف کیا ہے! ایپ کو گوگل پلے یا ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹول کا استعمال کرتے ہوئے، رہائشی برف کی دیکھ بھال میں ہونے والی پیشرفت، سڑک کی ترجیحات اور اگر ان کے قریب ہل موجود ہو، تو وہ اپنی گاڑیوں کو سڑک سے ہٹا سکتے ہیں۔ سروس کی درخواستیں درج ذیل پر بھی جمع کرائی جا سکتی ہیں۔

سٹی کے موسم سرما کے آپریشنز کے متعلق مزید معلومات کے [www.brampton.ca/snow](http://www.brampton.ca/snow) پر ملاحظہ فرمائیں۔

### اقتباسات

"اپنے رہائشیوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے - یہی وجہ ہے کہ ہمارا عملہ چوبیس گھنٹے کام کرتا رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ موسم سرما کے آمد پر ہم بھرپور تیاری میں ہوں۔ اس موسم کو محفوظ اور پُر لطف بنانے میں ہم سب کا کردار ہے۔ ہمارے رہائشی جمی ہوئی برف، تازہ برف اور کیچڑ وغیرہ سے فٹ پاتھوں کو فوری طور پر صاف کرنے، سردیوں کے موسم کے شدید واقعات کے دوران گاڑیوں کو سڑکوں سے دور رکھنے اور ہماری 311 موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہماری مدد کر سکتے ہیں!"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"جب ہر کوئی ہماری کمیونٹی کو موسم سرما کے لیے تیار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو ہم سب محفوظ طریقے سے اپنی منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ ہم رہائشیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ 311 موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، [#BramSnowUpdate](https://twitter.com/BramSnowUpdate) کے ذریعے سٹی آف برامپٹن کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نظر رکھیں اور فٹ پاتھوں کو صاف رکھنے میں

اپنا کردار ادا کریں۔ اس طرح جب سردیوں کا موسم آئے گا، تو ہم سب اکٹھے مل کر تیار رہیں گے!"  
- پال ویسیٹیٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5، چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"سٹی میں ہمارے سب سے بڑے آپریشنز میں سے ایک سردیوں کے موسمی حالات سے نمٹنے کے لیے فوری ردعمل دینا ہے تاکہ ہماری کمیونٹی محفوظ، پُر لطف اور سب کے لیے قابل رسائی رہے۔ سٹی سالانہ بنیادوں پر 4,053 کلومیٹر سڑکوں، 1,009 کلومیٹر فٹ پاتھوں اور پکنڈٹیوں اور 205 کلومیٹر تفریحی پگنڈٹیوں کو اپنی اصلی حالت میں برقرار رکھنا ہے۔ رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس موسم کے دوران مقامی طور پر برف کی صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے 311 موبائل ایپ، بشمول پلو ٹریکر کو ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ آپ برفانی موسم کے دوران محفوظ طریقے سے اپنے سفر کی منصوبہ بندی کر سکیں۔"  
- پال موریسن، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کنش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)